

Directorate of Curriculum, Assessment and Research Sindh, Jamshoro  
Standardized Achievement Test (SAT) for the session 2018 - 19

Time: 90 Minutes

Grade: VIII

Total Marks: 75

Subject: اردو

دی گئی کہانی کو غور سے پڑھیے اور صحیح جواب، "جو ابلی کاپی" میں دی گئی جگہ میں لکھیے۔

تویر اپنے والد کے ساتھ کراچی جا رہا تھا صبح کا سہانا وقت تھا ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی موٹر سے پر تریفک کم تھا اور کار مناسب رفتار سے رواں دواں تھی سڑک کے اطراف میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف نشانات والے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تویر اپنے والد سے پوچھنے لگا کہ یہ کس طرح کے بورڈ ہیں اور ان نشانات کے کیا معنی ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ ان کا کیا فائدہ ہے۔

اس کے والد نے بتایا کہ ہر کام کا کوئی قاعدہ اور قانون ہوتا ہے، راستے میں لگے یہ بورڈ اور نشانات ٹریفک کے قاعدے اور قوانین ہیں۔ جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم گاڑی چلانے والوں کا اور نہ ہی پیدل چلنے والوں کا خیال کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنی اور لوگوں کی زندگیوں کو بچائیں اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ تویر کے والد ابھی اس کو بتا ہی رہے تھے کہ اچانک ایک حادثہ رونما ہو گیا ایک موٹر سائیکل سوار بہت تیزی سے بغیر کوئی اشارہ دے دے دائیں جانب مڑ گیا پیچھے سے آنے والی کار جس کی رفتار کم تھی مگر کار اور موٹر سائیکل کی ٹکرائی ہوئی اور وہ نوجوان زخمی ہو گیا، تویر کے والد نے کہا اس نوجوان نے ٹریفک کے اصول پر عمل نہیں کیا اور موٹر سائیکل سے ہونے کوئی اشارہ نہیں دیا۔

تویر کے والد نے اُسے چند اہم باتیں بتائیں کہ کار میں بیٹھنے کے بعد ڈرائیور اور اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھنے والے کو حفاظتی بیلٹ ضرور باندھنا چاہیے، کار میں بیٹھنے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ خصوصاً ہاتھ اور سر باہر نہ نکالیں۔ گاڑی چلاتے وقت دوسری گاڑی کو اور ٹیک کرتے ہوئے انڈیکسٹر کا اشارہ ضرور دیں اس کے علاوہ اپنا موبائل فون استعمال نہ کریں۔ جہاں پر زیبراکراسنگ کا بورڈ لگا ہوا وہاں بہت احتیاط رہیں کیوں کہ یہ نشان پیدل چلنے والوں کے لیے ہوتا ہے، اسکول اور ہسپتال کے پاس ہارن نہ بجائیں اور جہاں پر "پارکنگ منع ہے" کا بورڈ لگا ہوا وہاں پارکنگ نہ کریں۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل چلانے والے کو چاہیے کہ وہ مناسب رفتار سے چلائیں اور اسی طرح پیدل چلنے والوں کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ سڑک پر چلنے کے بجائے فٹ پاتھ پر چلیں۔ تویر نے اپنے ابو سے کہا کہ آج مجھے ٹریفک کے حوالے سے بہت اچھی معلومات ملی ہیں، ہمیں ٹریفک کے اصولوں پر چلنا چاہیے تاکہ حادثات سے بچا جاسکے۔

سوال 1: اس تحریر میں بتائے گئے ہیں:

(a) ٹریفک کے قوانین (b) ٹریفک کے واقعات (c) ٹریفک کے فائدے (d) ٹریفک کے حادثات

سوال 2: تحریر سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں:

(a) سڑک پر سفر کرنا ہے (b) لوگوں کی زندگی بچانی ہے (c) ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ہے (d) پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا چاہئے

سوال 3: "زیبراکراسنگ" ہوتی ہے

(a) گاڑی چلانے والوں کے لئے (b) فٹ پاتھ پر دوڑنے والوں کے لئے (c) پیدل چلنے والوں کے لئے (d) گاڑی کھڑی کرنے والوں کے لئے

سوال 4: "پارکنگ منع ہے" کے بورڈ کا مطلب ہے:

(a) پیدل چلنا منع ہے (b) گاڑی کھڑی کرنا منع ہے (c) شور مچانا منع ہے (d) پیدل چلنا منع ہے

سوال 5: آج کل نوجوان بہت تیز چلاتے ہیں:

(a) سائیکل (b) موٹر سائیکل (c) کار (d) جیپ

سوال 6: اس عبارت میں کتنے کردار ہیں؟

(a) دو (b) تین (c) چار (d) پانچ

سوال 7: حروف تہجی کے لحاظ سے درست ترتیب میں لکھے لفظ ہیں:

(a) جہاز۔ سائیکل۔ کار۔ موٹر سائیکل (b) سائیکل۔ جہاز۔ کار۔ موٹر سائیکل (c) کار۔ جہاز۔ سائیکل۔ موٹر سائیکل (d) موٹر سائیکل۔ جہاز۔ سائیکل۔ کار

سوال 8: نام کی جگہ آنے والا لفظ "ضمیر" کہلاتا ہے، ان جملوں میں "ضمیر" ہے:

(a) تویر (b) اچھا (c) نوجوان (d) وہ

سوال 9: لفظ "فائدہ" کی ضد ہے:

(a) نقصانات (b) نقصان (c) ناقص (d) نقص

سوال 10: ان میں سے درست لکھا لفظ ہے:

(a) خسوساً (b) خسوفاً (c) خصوصاً (d) خسوفاً

دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیے اور صحیح جواب، "جوابی کاپی" میں دی گئی جگہ میں لکھیے۔

کھیلوں کا مقصد جسمانی ورزش اور طلباء کو مضبوط بنانا ہے۔ ان کھیلوں کا دماغ پر بھی عمدہ اثر پڑتا ہے یہ کھیل طلباء میں فرماں برداری، فرض شناسی، اور ذور اندیشی پیدا کرتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف بین الاقوامی کھیلوں کو مقبول عام بنانے اور انہیں عالمی معیار لانے کے لئے مختلف کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں یہاں کرکٹ کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ اسکول کے طلباء گلیوں میدانوں اور جہاں جگہ ملی وہیں کھلنا شروع کر دیتے ہیں، آج پاکستان کرکٹ کی دنیا میں جانا بچانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو آزمانے کے لئے اولمپک کھیل تشکیل دیا گیا۔ یہ ہر چار سال کے بعد منعقد کئے جاتے ہیں۔ اس کھیل کے انعقاد کے لئے ہر مرتبہ کسی نئے ملک کا شہر منتخب کیا جاتا ہے، اس کا ایک جھنڈا بنایا جاتا ہے جس کے بنانے والے بیرون ڈی کو برٹن ہیں۔ اس کا جھنڈا یونان کے شہر اولمپیا میں لہرایا گیا، جھنڈے کا رنگ سفید ہے جس کے درمیان پانچ دائرے بنے ہوئے ہیں، اوپر کی جانب تین دائرے نیلے، کالے اور لال رنگ کے ہیں جب کہ نیچے کے دو دائرے پیلے اور ہرے رنگوں پر مشتمل ہیں۔ یہ پانچ دائرے پانچوں براعظموں یعنی ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکا اور آسٹریلیا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اولمپک مشعل قدیم اولمپک کی ایک یادگار ہے۔ تیز تر، بلند تر، طاقت ور یہ الفاظ بیرون ڈی کو برٹن نے اولمپک کے قول کے طور پر استعمال کیے۔ اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں میزبان ملک کا ایک کھلاڑی ان الفاظ میں حلف اٹھاتا ہے "میں تمام حصہ لینے والوں کی طرف سے حلف اٹھاتا ہوں کہ ہم ان کھیلوں کے تمام قوانین کو محفوظ رکھتے ہوئے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے تاکہ ان کھیلوں اور ہمارے ٹیوں کا وقار قائم رہے۔" اولمپک کھیلوں کا اصل مقصد جیتنا نہیں بلکہ حصہ لینا ہے اسی طرح جس طرح زندگی کا مقصد ہمیشہ جیتنا نہیں بلکہ بہترین طریقے سے کوشش کرنا ہے۔

سوال 11:	اس عبارت میں زیادہ تر معلومات ہیں:	(a) تعلیم کی	(b) کھیلوں کی	(c) اولمپک کی	(d) ورزش کی
سوال 12:	جسم کے علاوہ کھیلوں کا اچھا اثر پڑتا ہے:	(a) پڑھائی پر	(b) وقت پر	(c) سوچ پر	(d) ذہنی نشوونما پر
سوال 13:	ہمارے ملک میں زیادہ تر کھیلے جاتے ہیں :	(a) فٹ بال	(b) ہاکی	(c) کرکٹ	(d) ٹینس
سوال 14:	قدیم اولمپکس کی نشانی ہے	(a) ہاکی	(b) گیند	(c) مشعل	(d) جھنڈا
سوال 15:	اولمپک کا جھنڈا سفید ہے، سفید کی نشانی ہے:	(a) اتحاد کی	(b) سچ کی	(c) امن کی	(d) محبت کی
سوال 16:	اولمپک کھیلوں کی طرح ہمارے یہاں زیادہ تر ہوتے ہیں:	(a) سچ	(b) ٹورنامنٹ	(c) کھیل	(d) تماشے
سوال 17:	اولمپک کا جھنڈا پہلی مرتبہ یونان میں لہرایا گیا اس کا مطلب ہے کہ یونان ایک ملک ہے :	(a) ترقی یافتہ	(b) قدیم	(c) مشہور	(d) صاف ستھرا
سوال 18:	کرکٹ کھیل رہا ہے۔ یہ جملہ ظاہر کر رہا ہے:	(a) زمانہ حال	(b) زمانہ ماضی	(c) زمانہ مستقبل	(d) زمانہ ماضی بعید
سوال 19:	کیا پاکستان میں فٹبال ایک مقبول کھیل ہے: یہ جملہ ہے:	(a) سادہ	(b) انکاریہ	(c) بیانیہ	(d) سوالیہ
سوال 20:	قواعد کے مطابق "تقریب" ہے:	(a) اسم	(b) ضمیر	(c) فعل	(d) صفت

===== حصہ لکھنا =====

ہدایت: ذیل میں دیے گئے سوالوں کے جوابات جوابی کاپی میں دی گئی جگہ پر لکھیے۔

سوال نمبر 21: کسی دریا یا سمندر کے کنارے کی سیر پر 15 سطروں کا مضمون لکھیں۔ (کل نمبر-15)

سوال نمبر 22: اپنے کو نسلر صاحب کو درخواست لکھیں اور محلے کی صفائی ستھرائی کی حالت کو بہتر بنانے کی گزارش کیجیے۔ (کل نمبر-5)

سوال نمبر 23: پانی کی کمی ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پانی کے استعمال کو کم کرنے کے لیے کوئی 5 تجاویز لکھیں۔ (کل نمبر-5)

سوال نمبر 24: یہ ایک ناکمل کہانی ہے۔ اس کو اپنے خیال کے مطابق مکمل کریں۔ (کل نمبر-10)

ایک کڑھارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا۔ اس کا گذر ایک ندی پر سے ہوا۔ ندی سے گزرتے ہوئے اس کا کلبھاڑا ندی میں گر گیا۔

سوال نمبر 25: اشاروں کی مدد سے مضمون کو مکمل کریں۔ موضوع: برسات کا ایک دن (کل نمبر-15)

گرمی کی شدت، بادلوں کی آمد، جل تھل بارش، خوشی اور مسرت، بارش کے فائدے اور نقصانات، بارش کے بعد کی صورتحال